

Official Spokesperson's response to media queries on inauguration of road on 8th May in Pithoragarh district, Uttarakhand

May 09, 2020

اتھارکھنڈ کے پتھورا گڑھ ضلع میں 8 مئی کو روڈ کے افتتاح کے موقع پر میڈیا کے سوالات پر سرکاری ترجمان کا جواب
مئی 09، 2020

اتراکھنڈ کے پتھورا گڑھ ضلع میں 8 مئی کو روڈ کے افتتاح سے متعلق سوالات کے جواب میں، سرکاری ترجمان نے مندرجہ ذیل بیان دیا:

ہم نے نیپال کی وزارت برائے خارجہ امور کی طرف سے ہندوستان میں ایک روڈ کے افتتاح سے متعلق 9 مئی 2020 کو جاری کردہ پریس ریلیز کو دیکھا ہے۔

اتراکھنڈ صوبہ کے ضلع پتھورا گڑھ میں حال ہی میں افتتاح شدہ روڈ کا حصہ مکمل طور پر ہندوستان کے علاقے میں واقع ہے۔ یہ روڈ پہلے سے موجود راستے کی جگہ پر ہے جو کیلاش مانسروور یاٹرا کے لئے یاٹریوں کے ذریعہ استعمال ہوتا تھا۔ موجودہ منصوبے کے تحت یاٹریوں، مقامی لوگوں اور تاجروں کی آسانی اور سہولت کے لئے اسی روڈ کو سفر کے قابل بنایا گیا ہے۔

ہندوستان اور نیپال نے سرحد سے متعلق تمام معاملات سے نمٹنے کے لئے میکانزم قائم کیا ہے۔ نیپال کے ساتھ باؤنڈری قائم کرنے کا عمل جاری ہے۔ بھارت سفارتی ڈائلاگ کے ذریعے اور نیپال کے ساتھ ہمارے قریبی اور دوستانہ دوطرفہ تعلقات کی روشنی میں باقی باؤنڈری معاملات کو حل کرنے کا پابند ہے۔

دونوں فریقین خارجہ سکرٹری کی سطح پر بات چیت کرنے کے لئے شیڈول پر عمل جاری رکھے ہوئے ہیں جو دونوں معاشروں اور حکومتوں کے ذریعہ کووڈ 19 ایمرجنسی کے چیلنج سے کامیابی کے ساتھ نپٹنے کے بعد دونوں فریقین کے مابین تاریخوں کو حتمی شکل دینے کے بعد ملاقات کی جائے گی۔

نئی دہلی
مئی 09، 2020

DISCLAIMER: This is an approximate translation. The original is available in English on MEA's website and may be referred to as the official press release